

External Affairs Minister's meeting with State Councilor and Foreign Minister of China, H.E. Mr. Wang Yi on the sidelines of SCO Foreign Ministers' Meeting

July 14, 2021

بھارتی وزیر خارجہ کی ایس سی او وزرائے خارجہ کے اجلاس کے موقع پر چین کے ریاستی کونسلر اور وزیر خارجہ عالی جناب وانگ یی کے ساتھ میٹنگ

14 جولائی، 2021

وزیر خارجہ (ای اے ایم) نے چین کے ریاستی کونسلر اور وزیر خارجہ عالی جناب وانگ یی سے 14 جولائی 2021 کو شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے موقع پر تاجکستان کے دوشنبہ میں ملاقات کی۔ - دونوں وزراء نے مشرقی لداخ میں لائن آف ایکچول کنٹرول (ایل اے سی) پر موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کرنے کے ساتھ ساتھ ہندوستان اور چین کے مجموعی تعلقات سے متعلق دیگر امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔

2- ماسکو میں ستمبر 2020 میں اپنی آخری ملاقات کو یاد کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے مشرقی لداخ میں ایل اے سی سے متعلق باقی معاملات کو جلد از جلد حل کرتے ہوئے، اس وقت طے پانے والے معاہدے پر عمل کرنے اور پیچھے ہٹنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ای اے ایم (وزیر خارجہ) نے اسٹیٹ کونسلر کو اس بات کا اشارہ دلایا کہ اس سال کے شروع میں پینگونگ لیک ایریا میں کامیابی سے پیچھے ہٹنے سے باقی امور حل کرنے کے لئے مناسب حالات پیدا ہو گئے تھے۔ توقع کی جارہی ہے کہ چینی فریق اس مقصد کی سمت ہمارے ساتھ کام کرے گا۔ بھارتی وزیر خارجہ نے تاہم اس بات کا تذکرہ کیا کہ باقی علاقوں کی صورتحال ابھی تک حل نہیں ہوئی ہے۔

3- ای اے ایم (وزیر خارجہ) نے اس بات کو یاد کیا کہ دونوں فریقین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ موجودہ صورتحال کو طول دینا کسی بھی فریق کے مفاد میں نہیں ہے۔ یہ بظاہر منفی انداز میں تعلقات کو متاثر کر رہا ہے۔ مجموعی تعلقات کا جائزہ لیتے ہوئے، وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ 1988 سے ہی سرحدی علاقوں میں امن وسکون کی بحالی تعلقات کی ترقی کی بنیاد رہی ہے۔ گذشتہ سال اس صورتحال کو تبدیل کرنے کی کوششوں نے 1993 اور 1996 کے معاہدوں کے تحت کیے گئے وعدوں کو بھی ناگزیر طور پر متاثر کیا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اس لئے یہ باہمی

مفاد میں یہ ہے کہ دونوں فریقین مشرقی لداخ میں ایل ای سی سے متعلق بقیہ امور کے جلد حل کے لئے کام کریں، اور ساتھ ساتھ میں دو طرفہ معاہدوں اور پروٹوکول کی مکمل پاسداری کریں۔

4۔ دونوں وزراء نے 25 جون 2021 کو ڈبلیو ایم سی سی کے آخری اجلاس میں سینئر ملٹری کمانڈروں کے اجلاس کا ایک اور دور منعقد کرنے کے لئے دونوں فریقین کے مابین معاہدے کو نوٹ کیا۔ انہوں نے اتفاق کیا کہ اس کا جلد سے جلد اجلاس ہونا چاہئے۔ انہوں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ اس ملاقات میں، فریقین کو باقی تمام امور پر تبادلہ خیال کرنا چاہئے اور باہمی قابل قبول حل تلاش کرنا چاہئے۔ یہ سمجھوتہ بھی ہوا کہ دونوں فریقین زمین پر استحکام کو یقینی بناتے رہیں گے، اور دونوں طرف سے کوئی یکطرفہ اقدام نہیں اٹھائے گا جس سے تناؤ بڑھے۔

5۔ دونوں وزراء نے رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔

دوشنبہ

14 جولائی، 2021

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.